

17 اپریل 2018

برامپٹن اپنے لوگوں کو سن رہا ہے: شمال مغربی GTA میں بہترین موسیقار NXNE میں مرکز نگاہ ہوں گے

موسیقی کے تمام ابھرتے ہوئے فنکاروں کو 'دس از برامپٹن' (This is Brampton) شوکیس میں جلوہ گر ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، درخواست دینے کی آخری تاریخ 27 اپریل ہے

برامپٹن، آن – ایلینا کارا کی گریمی میں جیت، جیسی ریڈیز کے جونو ایوارڈ اور برامپٹن کے آرٹس واک آف فیم میں قابل ذکر طور پر ایگزکو لیوی اور ہاٹ لائین بلنگ کے ڈائریکٹر X کی شمولیت کے بعد، برامپٹن موسیقی کے عالمی نظارے پر ایک ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کی آغوش کے طور پر اپنا مقام بنانا جاری ہے۔ سٹی آف برامپٹن نے اپنی اس قسم کی پہلی شراکت داری میں آج دنیا کے بڑے موسیقی کے میلے، نارٹھ ہائے نارٹھ ایسٹ (NXNE) میں اپنی شرکت کا اعلان کیا ہے، تاکہ ان زبردست اور ابھرتے ہوئے فنکاروں کو توجہ فراہم کی جا سکے، جو برامپٹن کو اپنا گھر مانتے ہیں۔

دس از برامپٹن مورخہ 15 جون، بروز جمعہ کو NXNE کے ایک حصے کے طور پر ٹورانٹو کے مشہور براہ راست موسیقی کے مقام پر ریوولی (334 کوئین اسٹریٹ ویسٹ، ٹورانٹو) میں منعقد ہو گا۔ سٹی آف برامپٹن تمام مقامی موسیقاروں، ریکارڈنگ فنکاروں اور بینڈز کو بیش قیمت پزیرائی حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کرنے کے لیے اس زبردست شوکیس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہے، جو انہیں اپنے موسیقی کے کیریئرز کو اگلے درجے پر لے جانے اور برامپٹن پرائیڈ کے جشن میں شامل ہونے میں مدد دے سکتا ہے۔

شرکت کیسے کریں: تمام اصناف کی موسیقی کے ریکارڈنگ فنکاروں اور بینڈز کو مورخہ 27 اپریل شام 4 بجے ET سے پہلے culture@brampton.ca پر اپنی درخواستیں جمع کروانے کی دعوت دیتا ہے۔ GTA کے موسیقی کے نامور افراد کا ایک پینل درخواستوں پر فیصلہ کرے گا؛ صرف کامیاب درخواست دہندگان سے مٹی کے مہینہ کے وسط میں رابطہ کیا جائے گا۔

دس از برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات، بشمول درخواست دینے کی ہدایات، کے لیے، www.brampton.ca/NXNE ملاحظہ کریں یا culture@brampton.ca پر ای میل کریں۔

GTA میں نوجوان ترین اور منفرد طور پر متنوع شہروں میں سے ایک کے طور پر، برامپٹن ایک حقیقی کلچرل ہب کے طور پر ابھرا ہے، جو دنیا کے بہترین تخلیقی اور معتبر ٹیلنٹ کی پرورش کر رہا ہے۔

دس از برامپٹن NXNE کی ٹیسٹ میکر سیریز 2018 کا ایک حصہ ہو گا، جو کینیڈا کی موسیقی کی شخصیات، ڈیجیٹل طور پر اثر رکھنے والے افراد، صنعتی رہنماؤں، موسیقی کی صوبائی، بلدیاتی اور قومی ایسوسی ایشنز، صنعتی ایسوسی ایشنز، ریکارڈ لیبلز اور مزید کئی نامور شخصیات و اداروں کی جانب سے پروگرام کیے گئے شوز کا ایک سیٹ ہے۔

شوکیس کے لیے ٹکٹ اور رسٹ بینڈز nxne.com پر دستیاب ہیں۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل
میڈیا کوارڈینیٹر
سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654